



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2022/07/22

گورنر HOCHUL کی جانب سے اسقاط حمل فراہم کرنے والے شعبوں کی معاونت کرنے کے لیے فنڈنگ کے دوسرے دور میں \$15 ملین دستیاب کرنے کا اعلان

فنڈنگ کا نشانہ وہ ریاستی علاقے ہوں گے جن کو اسقاط حمل کی خدمات تک رسائی فراہم کرنے میں سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی۔

یہاں فنڈنگ کے مواقع کے دور دو کے بارے میں مزید [یہاں](#) جانیں۔

گورنر Kathy Hochul نے آج اسقاط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کی معاونت کے فنڈ کے دوسرے دور کے لیے کل \$15 ملین کے لیے اظہار دلچسپی کی ایک استدعا جاری کرنے کا اعلان کیا، جو ریاست نیویارک میں تنظیموں اور خدمات فراہم کنندگان کو اسقاط حمل کی خدمات تک رسائی کو مزید وسعت دینے کے لیے دستیاب کرایا جائے گا۔

گورنر Hochul نے کہا، "جب تک ملک بھر میں خواتین کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔" فنڈنگ کا یہ موقع اسقاط حمل کے مریضوں کے لیے ہمارے قومی رہنماء محافظوں اور خدمات فراہم کنندگان کے ساتھ ہمارے جاری کام کو مزید تقویت دیتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے پاس نگہداشت فراہم کرنے کے لیے درکار مدد اور وسائل موجود ہوں۔ میری زیر نگرانی، نیویارک ہمیشہ اسقاط حمل تک رسائی کے لیے ایک محفوظ بندرگاہ رہے گا۔"

فنڈنگ کا دوسرا دور خاندانی منصوبہ بندی کے خدمات فراہم کنندگان، جنہیں پہلے مرحلے کے دوران فنڈنگ نہیں دی گئی تھی، دوسرے لائسنس یافتہ نگہداشت صحت فراہم کنندگان، اور آزاد کلینکوں کو شامل کرنے کی اہلیت میں اضافہ کرتا ہے۔ فنڈنگ کے ایک اہم حصے سے تین خطوں - مغربی، جنوبی درجے، اور NYC - کو نوازا جائے گا جن کا محل وقوع کی بنیاد پر، *Dobbs v. Jackson* فیصلے کے نتیجے میں اسقاط حمل کی خدمات تک رسائی فراہم کرنے میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا متوقع ہے۔

ریاست نیویارک کی ہیلتھ کمشنر ڈاکٹر Mary T. Bassett نے کہا، "گورنر Hochul کی قیادت اور قوت کی وجہ سے، اسقاط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کی مدد اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نیویارک میں فنڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے \$25 ملین ڈالر کے اسقاط حمل کی خدمات فراہم کرنے والے امدادی فنڈ کے ساتھ، ہم ریاست بھر میں اسقاط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کو اپنی استعداد میں اضافہ کرنے، اپنے وسائل کو بہتر بنانے اور اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے فوری سرمایہ کاری فراہم کر رہے ہیں۔"

درخواست دہندگان کم از کم \$300,000 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر قابل اطلاق ہو تو، ہر ایک اضافی الگ کلینک کے مقام کے لیے \$50,000 تک یا پہلے 12 ماہ کی مدت کے دوران فراہم کردہ خدمات کی تعداد کی بنیاد پر اضافی فنڈنگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

دور 2 فنڈنگ کے مواقع کے بارے میں [یہاں](#) مزید جانیں۔ درخواستیں جمعہ، 12 اگست 2022 تک جمع کروائیں۔

پہلے دور کے دوران، ریاست نیویارک کے محکمہ صحت (New York State Department of Health) نے 13 پروگراموں کو \$10 ملین سے نواز، جس میں 63 مقامات شامل ہیں جن کو فی الحال جامع خاندانی منصوبہ بندی پروگرام کے تحت فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔

اسقاط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کے امدادی فنڈ کے علاوہ، گورنر نے DCSJ کے ذریعے حفاظتی گرانٹوں تک رسائی کے لیے نگہداشتِ تولیدی صحت کے مراکز کے لیے \$10 ملین بھی دستیاب کروانے ہیں تاکہ اس اہم نگہداشت کو انجام دینے والے فراہم کنندگان کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد ملے۔

گورنر Hochul، بمعہ ڈاکٹر Bassett کے ساتھ مل کر نگہداشتِ تولیدی صحت کی گول میز کانفرنسوں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، جس کا آغاز 12 جولائی کو ڈاون اسٹیٹ کے پہلے دور میں نوازے گئے افراد کے ساتھ ہوا، تاکہ خدمات فراہم کنندگان کی ضروریات اور تجربات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور یہ کہ نیویارک کس طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہے اور Roe فیصلے کے بعد رسائی کی حفاظت کر رہا ہے۔

سپریم کورٹ کے Roe v. Wade کے فیصلے کو کالعدم کرنے کے بعد، گورنر Hochul نے ایک مضبوط، کثیر پلیٹ فارم، ادائیگی کردہ عوامی تعلیمی مہم کا آغاز کیا تاکہ وسیع پیمانے پر آگاہی کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسقاط حمل ہمیشہ محفوظ، قانونی اور قابل رسائی رہے۔ ریاست گیر مہم میں کثیر پلیٹ فارم اشتہاری کوششیں اور ایک نئی ویب سائٹ شامل ہے، جو نیویارک میں اسقاط حمل کے حقوق، فراہم کنندگان، معاونت اور ادائیگی کے اختیارات کے بارے میں معلومات کے لیے ایک واحد منزل ہے۔

جون میں، گورنر Hochul نے جامع، چھ مسودہ ہائے قانون کے ایک بیکج پر دستخط کیے تھے جو نیویارک میں مریضوں اور خدمات فراہم کنندگان کے لیے اسقاط حمل کے حقوق کو مزید محفوظ کرنے، تحفظ دینے اور مضبوط کرنے کے لیے مقررہ کی جانب سے منظور کیے گئے تھے۔ یہ قانون سازی مختلف قانونی تحفظات کے پیش نظر مخصوص اقدامات لیتی ہے بشمول تحفظ یافتہ حقوق میں غیر قانونی مداخلت کے لیے کارروائی کا سبب طے کرنا نیز ایڈریس کونفیڈینسیلٹی پروگرام (Address Confidentiality Program) میں اسقاط حمل کے فراہم کنندگان اور مریضوں کو شامل کرنا۔ یہ اقدام نگہداشتِ صحت کے پریکٹیشنروں کو ایسے مریضوں کو تولیدی خدمات فراہم کرنے پر غلط روی کے الزامات عائد کرنے سے منع کرتا ہے جو ان ریاستوں میں رہتے ہیں جہاں ایسی خدمات غیر قانونی ہیں اور طبی بدعنوانی کرنے والی بیمہ کمپنیوں کو قانونی نگہداشت فراہم کرنے والے اسقاط حمل کے خدمات فراہم کنندگان کے خلاف منفی کارروائی کرنے سے روکتا ہے۔

اس ماہ کے آغاز میں، ریاست نیویارک کے آئین میں اسقاط حمل کے حقوق کو شامل کرنے کا پہلا قدم منظور کیا گیا تھا۔

####

اضافی خبریں یہاں دستیاب ہیں [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ریاست نیویارک | ایگزیکٹو چیمبر | 518.474.8418 | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov)